



قومی کرکٹ ٹیم کے ساتھ سفر ہمیشہ یادگار ہوتا ہے، وحید احمد خان

- روانگی کے وقت فخر زمان اور حسن علی سب سے پہلے ٹیم بس میں آکر بیٹھتے ہیں
- شعیب ملک اور وہاب ریاض فرنٹ سیٹ پر بیٹھ کر سفر کرنا پسند کرتے ہیں
- دیگر قومی کرکٹرز بیرونی نظارہ دیکھنے کے لیے کھڑکی والی سیٹ پسند کرتے ہیں
- وحید احمد خان کی آزاد کشمیر کے موٹر بائیکر سے قومی کرکٹ ٹیم کے بس ڈرائیور تک کی کہانی

لاہور، یکم دسمبر 2019ء:

12 سال قبل پاکستان کرکٹ بورڈ میں ملازمت کا آغاز کرنے والے وحید احمد خان کی ذمہ داری نیشنل کرکٹ اکیڈمی اور پی سی بی کے اعلیٰ حکام کے علاوہ قومی کرکٹ ٹیم کو منزل مقصود تک پہنچانا ہے۔ 52 سالہ وحید احمد خان سیریز کے دوران قومی کرکٹ ٹیم کے کھلاڑیوں کو ایئرپورٹ سے ہوٹل اور پھر وینوز پر بحفاظت پہنچانے کے فرض کو پوری ذمہ داری سے ادا کرتے ہیں۔

دوہزار سات میں ملازمت کی غرض سے این سی اے کا رخ کرنے والے وحید احمد خان کی ٹیسٹ ڈرائیو ان کے پسندیدہ کرکٹر ڈائریکٹر اکیڈمی پی سی بی مدثر نذر نے لی تھی۔ زمباوے، ویسٹ انڈیز اور سری لنکا کے خلاف ہوم سیریز سمیت پاکستان سپر لیگ اور مختلف ایچ گروپ کے کھلاڑیوں کے ساتھ فرائض انجام دینے والے وحید احمد احمد خان کھلاڑیوں کی عادات اور طور طریقوں سے واقف ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ روانگی کے وقت فخر زمان اور حسن علی سب سے پہلے آکر ٹیم بس میں بیٹھتے ہیں۔

وحید احمد خان نے مزید بتایا کہ شعیب ملک اور وہاب ریاض فرنٹ سیٹ پر بیٹھ کر

سفر کرنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دوران سفر قومی کرکٹرز بیرونی نظارے دیکھنے کے لیے شیشے کی طرف بیٹھنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ قومی کرکٹ ٹیم کے ڈرائیور کا کہنا ہے کہ پی ایس ایل کے دوران غیرملکی کھلاڑی بھی دوران سفر باہر کے نظاروں دیکھنے کے شوقین ہوتے ہیں۔

ہاؤن سالہ ڈرائیور کا کہنا ہے کہ سفر کے دوران قومی کرکٹرز آپس میں خوب گپ شپ کرتے ہیں اور اکثر موسیقی لگانے کی فرمائش بھی کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ محمد عامر اور محمد عرفان اکثر سفر کے دوران گنگنا رہے ہوتے ہیں۔

وحید احمد خان کا کہنا ہے کہ شاید آفریدی اور یونس خان انہیں پیار سے چاچا پکارتے تھے۔ وحید احمد خان شعیب ملک کے ہمراہ لاہور سے سیالکوٹ اور پھر لاہور واپسی کے سفر کو یادگار قرار دیتے ہیں۔ فاسٹ باؤلر محمد عامر کا بابا کہنا بھی وحید احمد خان سے بے تکلفی کا اظہار ہے، بابا کا لفظ ہاؤن سالہ ڈرائیور کے لبوں پر مسکراہٹ لے آتا ہے۔

ایف اے تک تعلیم حاصل کرنے والے وحید احمد خان کا کہنا ہے کہ بچپن میں جن نامور کرکٹرز کو ٹی وی اسکرین پر دیکھا کرتے تھے ان کا ہمسفر بننا ان کے لیے ایک نئی زندگی کا آغاز تھا۔ وحید احمد خان نے کہا کہ ملازمت کے دوران ان بارہ سالوں میں انہوں نے تمام کرکٹرز کا رویہ دوستانہ پایا ہے۔

آزاد کشمیر کے شہر باغ کے رہائشی وحید احمد خان میں ڈرائیونگ کا شوق بڑے بھائی کی موٹرسائیکل چلانے سے شروع ہوا تھا۔ بچپن میں والدین نے انہیں پڑھائی پر دھیان دینے کے لیے ڈانٹ ڈپٹ بھی کی مگر وحید احمد خان نے شوق کی خاطر ڈرائیونگ کو اپنا پیشہ بنانے کو ترجیح دی۔

ان کا کہنا ہے کہ قومی کرکٹرز کے ساتھ پیشہ وارانہ ذمہ داریاں نبھانا ان کے لیے کسی اعزاز سے کم نہیں۔ زندگی کی ہاؤن بہاریں دیکھنے کے باوجود وہ خود کو ایک جوان اور تندرست شخص سمجھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر انہیں مزید 60 سال کی زندگی دی جائے تو بھی وہ انہی لوگوں کے ساتھ کام کرنے کو ترجیح دیں گے۔ وحید احمد خان کا کہنا ہے کہ وہ بطور ڈرائیور پاکستان کرکٹ بورڈ کے ساتھ کام کرنے پر فخر محسوس کرتے ہیں۔

– ENDS –

Media contact:

Ibrahim Badees Muhammad
Editor – Urdu Content

Media and Communications

E: ibrahim.badees@pcb.com.pk

M: +92 (0) 345 474 3486

W: www.pcb.com.pk

ABOUT THE PCB

The Pakistan Cricket Board (PCB) is the sole governing body for the game of cricket in Pakistan. Its goal is to work in partnership with its stakeholders to promote, develop and grow the game throughout the country.

The PCB's purpose is to maintain and enhance the reputation and integrity of the game, fostering excellence and upholding the spirit of the game. The PCB selects junior and senior national men's and women's cricket teams to represent the country on the global stage, runs high performance cricket centres across the country and plans and organises domestic competitions and international bi-lateral series.

The PCB is committed to developing ground and facility infrastructure, monitoring the implementation of playing codes and regulations, and supporting the game at every level through its high quality training provision for officials and coaches.

Commercial Partners



www.pcb.com.pk 
[@therealpcb](https://www.instagram.com/therealpcb) 
[@PakistanCricketBoard](https://www.facebook.com/PakistanCricketBoard) 
[@PakistanCricketOfficial](https://www.youtube.com/PakistanCricketOfficial) 
[@therealpcb](https://www.tiktok.com/@therealpcb) 

PCB Headquarters
Gaddafi Stadium
Ferozpur Road, Lahore
Pakistan, PO Box 54000
T: +92 42 3571 7231-4